

FA Part 2 Home Economics Full Book Online MCQ's Test

Sr	Questions	Answers Choice
1	پروٹین سے بمارے جسم کے خلیوں کی کیا بوتی ہے۔	A. تعزیر و مرمت B. شکست و ریخت C. بڑھوٹری D. نوڑ پھوڑ
2	پروٹین کا کردار بمارے جسم میں کس طرح کا ہوتا ہے۔	A. مٹی B. ریت C. سیمٹ D. پانی
3	بمارے جسم میں کتنی فیصد پروٹین مختلف جگہوں پر موجود ہے۔	A. 60 فیصد B. 75 فیصد C. 55 فیصد D. 90 فیصد
4	پروٹین کا لفظ کس زبان سے لیا گیا ہے۔	A. عربی B. ترکش C. لاطینی D. یونانی
5	احمیات کی حیثیت بمارے جسم میں کس کے بعد انتہائی اہم ہے۔	A. پوا B. خوراک C. پنی D. سانس
6	جسم کو توانائی کس سے ملتی ہے۔	A. نسلستہ اور جریبی سے B. احیات سے C. پروٹین سے D. حیاتین سے
7	پروٹین میں کیا کیشامی ہوسکتا ہے۔	A. لوپا اور ایپرٹین B. سلفر اور گدھک C. نائلزروجن D. فاسفورس
8	مچھلی، پنیر اور کلیجی میں پروٹین کی کتنی مقدار ہوتی ہے۔	A. 30.21 فیصد B. 20 فیصد C. 30 فیصد D. 15 فیصد
9	پکتے کے مختلف طریقے کتنے ہیں۔	A. دو B. تین C. چار D. پانچ
10	امینو ایڈ کون سے ترتیب سے بتئے ہیں۔	A. خاص سائمنی ترتیب B. عام سائمنی ترتیب C. مصنوعی سائمنی ترتیب D. قدرتی سائمنی ترتیب
11	اعلیٰ حیاتی قدر والی غذاؤں میں شعونما کے لیے استعمال ضروری ہوتے ہیں۔	A. امینو ایڈ B. احیات C. امینو ترشے D. وٹامن
12	پروٹین کتنے قسم کی ہوتی ہیں۔	A. دو B. تین C. چار D. چھ
13	مکمل پروٹین یا ضروری امینو ترشے کتنے ہوتے ہیں۔	A. دو B. چھ C. چار D. آٹھ
14	احمیات کس سے مل کر بتئے ہیں۔	A. جریبی سے B. نسلستہ سے C. امینو ترشے سے D. گدھک سے
15	ایندھن کے غذائی اجزاء کتنے ہوتے ہیں۔	A. دو B. تین C. چار D. پانچ

